

## **PRESS RELEASE**

For immediate release

July 24, 2023

### **Tech-based financial innovation is inevitable for sustainable growth; SECP Commissioner Mujtaba Lodhi**

**KARACHI, July 24:** Mr. Mujtaba Ahmad Lodhi, Commissioner, Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), urged the industry to focus on tech-based financial innovation to serve the underserved and unserved businesses in Pakistan. He was speaking at the launching ceremony of the thirteenth edition of the Year Book 2022 of the NBF and Modaraba Association 2022.

In his keynote address, Mr. Lodhi highlighted the importance of the NBF and Modaraba sectors in Pakistan and stressed that the sector has enormous untapped potential and is critical for advancing financial inclusion; therefore, by focusing on these sectors, it can contribute to Pakistan's economic growth and development. He also lauded the association for being active in spreading awareness while encouraging it to work together on the development of innovative products, targeting underserved micro and small businesses.

Mr. Lodhi reiterates that the SECP is committed to adapting to technological innovations and fostering a culture of innovation in the financial services industry. He informed participants that the fourth Cohort of the SECP's regulatory sandbox, specifically targeting the Islamic Finance segment, aims to encourage new ideas, products, services, and business models that are not currently addressed in the existing regulatory regime. He also applauded the Modaraba industry for showing remarkable resilience despite challenges such as the pandemic and political and economic uncertainty.

Speaking at the event, Mr. Mahfuz-ur-Rahman Pasha, Chairman NBF & Modaraba Association, thanked the SECP for its continued support of the association and the industry. Ms. Khalida Habib, Executive Director; Ms. Musarat Jabeen, Executive Director; and members of the association were present at the well-attended event.

**مالیاتی شمولیت کو صرف فن ٹیک کے ذریعے ہی فروغ دیا جاسکتا ہے: کمشنر ایس سی پی مجتبیٰ لودھی**

اسلام آباد (جولائی 24) سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے کمشنر، سپیشلائزڈ کمپنیز ڈویژن، جناب مجتبیٰ لودھی نے کہا ہے کہ ملک میں مالیاتی شمولیت کو فروغ دینے کے لئے فن ٹیک پر انحصار کرنا ہو گا۔ مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو جدید کاروباری ماڈل اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے جدید مالیاتی مصنوعات اور خدمات فراہم کرنا ہیں۔ وہ نان بینکنگ فنانس انسٹی ٹیوشنز (این بی ایف آئی) اور مضاربہ ایسوسی ایشن 2022 کی سالانہ ایئر بک کے تیرہویں ایڈیشن کی تقریب رونمائی سے خطاب کر رہے تھے۔

محبتي لودھي نے پاکستان ميں نان بينكنگ فنانس سيڪٽر اور مضاربہ كے شعبوں كى اہميت پر كوجا گر كرتے ہوئے كہا كہ اس شعبے ميں مالياتي شموليت كو آگے بڑھانے بے پناہ صلاحيت موجود ہے، لہذا، ان شعبوں پر توجہ مرکوز كر كے، عوام كو بڑے پيمانے پر مالياتي سہوليات فراہم كى جاسكتى ہي۔ انہوں نے اين بي ايف سي اور مضاربہ ايسوسي ائيشن اس سلسلے ميں آگاہي پيدا كرنے اور جديد فن ٹيڪ پر وڈ كٹس كو متعارف كروانے پر زور ديا۔ انہوں نے كہا كہ نان بينكنگ سيڪٽر كے ذريعے مانيكرو اور چھوٹے كاروباروں كو تيز ترين قرضے اور مالياتي خدمات فراہم كى جاسكتى ہيں۔

كمشنر لودھي نے اس بات كا اعادہ كيا كہ ايس اي سي پي فنانشل سروسز انڈسٽري ميں تكنيكي معاونت كى فراہمي اور جدت كو فروغ دينے كے ليے اپنا كردار ادا كرے گا۔ انہوں نے شركاء كو آگاہ كيا كہ ايس اي سي پي كے ريگوليٹري سينڈ باكس كے چوتھے مرحلے ميں اسلامك فنانس كے شعبے كو خاص طور پر شامل كيا گيا ہے تاكہ اس شعبے ميں نئے آئيڈياز، مصنوعات، خدمات اور كاروباري ماڈلز كى حوصلہ افزائى كى جائے۔

تقريب سے خطاب كرتے ہوئے، جناب محفوظ الرحمان پاشا، چيئرمين نان بينكنگ فنانس انسٽيٽيوشنز اينڈ مضاربہ ايسوسي ائيشن نے انڈسٽري كى مسلسل سپورٹ پر ايس اي سي پي كا شكريہ ادا كيا۔ محترمہ خالدہ حبيب، ايگزيكيوٽو ڈائريڪٽر؛ مس مسرت جبين، ايگزيكيوٽو ڈائريڪٽر؛ اور انجن كے ممبران بھي شريك تھے۔